

حصہ اول: پاکستان کا ثقافتی تنوع



باب دوم: تفریحی سرگرمیاں - کھیل

یہ سبق پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ:

- معاشرے میں تفریحی سرگرمیوں کی اہمیت کو پہچان سکیں اور پاکستانی معاشرت میں مقبول کچھ اہم تفریحی سرگرمیوں کو دریافت کر سکیں۔
- کھیلوں کو ایک اہم تفریحی سرگرمی کے طور پر سمجھ سکیں اور پاکستان میں مقبول روایتی، غیر روایتی، قومی اور بین الاقوامی کھیلوں کی موجودگی کا جائزہ لے سکیں۔

تفریحی سرگرمیاں



لوگ اپنی خوشی، ذات کی تکمیل اور فارغ وقت میں آرام کے لیے تفریحی سرگرمیوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ کھیل، مشغلے، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں، ثقافتی تقریبات اور تفریحی سفر ان سرگرمیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔

تفریحی سرگرمیاں پاکستان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں جو قوم کے وسیع تر ثقافتی تنوع اور مشترکہ اقدار کی نمائندگی کرتی ہیں۔ فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ جیسی عام تفریحی سرگرمیاں لوگوں کو متحد کرتی ہیں اور قومی اور معاشرے کی سطح پر فخر کا احساس بڑھاتی ہیں۔

کبڈی اور ملاکھڑ جیسے روایتی کھیل اور جشن بہاراں جیسے رنگین تہوار ثقافتی ورثے کو اجاگر کرتے ہیں اور سماجی میل جول کے لیے خوشی کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی تھیٹر میں شرکت، خاندان کے ساتھ پکنک پر جانا اور باہر کھانے کے مواقع ذہنی سکون اور تازگی کے لیے اہم ہیں۔ وہ لوگ جو تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں وہ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے معاشرے میں مضبوط سماجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں ایک صحت مند توازن حاصل کر سکتے ہیں۔

تفریحی سرگرمیوں کی اہمیت

تفریحی سرگرمیاں معاشرے کی سماجی ہم آہنگی اور مجموعی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہیں۔ یہ لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بناتی ہیں کیونکہ یہ تفریح، آرام اور جسمانی صحت کی بہتری کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ تفریحی سرگرمیوں کے کچھ اہم فوائد درج ذیل ہیں:

جسمانی صحت

تفریحی سرگرمیاں جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ کھیل، ہائیکنگ اور تیراکی جیسی سرگرمیاں قلبی صحت کو بہتر بناتی ہیں، پٹھوں کو مضبوط کرتی ہیں اور لچک اور برداشت میں اضافہ کرتی ہیں۔

باقاعدگی سے جسمانی تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لینا وزن کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دل کی بیماریوں، ذیابیطس اور موٹاپے جیسی دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے اور مجموعی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ روزمرہ کے معمول میں مختلف جسمانی سرگرمیاں شامل کر کے اپنی جسمانی صحت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے اور تفریحی سرگرمیوں کے سماجی اور ذہنی فوائد بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

ذہنی قوت

تفریحی سرگرمیاں ذہنی سکون اور خوشی کے لیے بے شمار فوائد فراہم کرتی ہیں۔ کھیل، دوڑ، پیدل چلنا، پکنک، فنون و دستکاری اور سماجی اجتماعات جیسی سرگرمیاں روزمرہ کی پریشانیوں سے ایک ذہنی وقفہ فراہم کرتی ہیں اور انسان کو سکون اور آرام دیتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کے ذریعے دماغ میں ایسے ہارمونز بھی خارج ہوتے ہیں جو موڈ کو بہتر بناتے اور خوشی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ، تفریحی سرگرمیاں یادداشت، توجہ، اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتوں جیسے ذہنی افعال کو بھی بہتر بناتی ہیں۔ خاص طور پر سماجی تفریحی سرگرمیاں تعلقات بنانے اور مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہیں جس سے جذباتی پختگی اور تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ روزمرہ کے معمول میں تفریحی سرگرمیوں کو شامل کر کے اپنی زندگی میں توازن حاصل کیا جاسکتا ہے جس سے مجموعی ذہنی صحت اور چلک میں اضافہ ہوتا ہے۔

معاشرتی جسم آہنگی

تفریحی سرگرمیاں معاشرتی ہم آہنگی کو بڑھانے اور مضبوط سماجی رابطے قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ گروہی سرگرمیوں میں حصہ لینا جیسے کھیل، تہوار اور رضاکارانہ کام افراد کو آپس میں بات چیت کرنے اور مضبوط تعلقات قائم کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ مشترکہ تجربات معاشرے کے ارکان میں اعتماد اور احترام پیدا کرتے ہیں جس سے باہمی تعلق کا احساس اور اجتماعی شناخت بنتی ہے۔ تفریحی سرگرمیوں میں حصہ لینا ٹیم ورک اور تعاون کو فروغ دیتا ہے جو کہ ایک ہم آہنگ معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔

مزید یہ کہ باہمی میل جول پر مبنی تفریحی سرگرمیاں ثقافتی اور نسلی تفریق کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور مختلف گروہوں کے درمیان سمجھ اور شمولیت کو فروغ دیتی ہیں۔ لوگوں کو مثبت اور خوشگوار ماحول میں اکٹھا کر کے تفریحی سرگرمیاں ایک دوسرے سے ہم آہنگ، معاون اور چلک دار معاشرے کی تشکیل میں مدد دیتی ہیں۔

ثقافتی تحفظ

تفریحی سرگرمیاں ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ روایتی کھیل، تہوار، موسیقی، رقص اور دستکاری کسی بھی معاشرے کی ثقافتی شناخت کا حصہ ہیں اور ان سرگرمیوں میں شرکت ان روایات کو زندہ رکھتی ہے۔

تفریحی سرگرمیوں کے ذریعے ثقافتی علم اور روایات اگلی نسلوں تک منتقل کی جاتی ہیں اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ نوجوان نسل اپنے ورثے سے جڑی رہے۔



اسلام آباد میں لوک ورثہ میلہ جیسے تہوار لوگوں کو ثقافتی رسومات اور روایات کا تجربہ کرنے اور ان میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرتے ہیں جس سے فخر اور تعلق کا احساس بڑھتا ہے۔

مزید یہ کہ تفریحی سرگرمیاں ثقافت کی انفرادیت کو وسیع تر معاشرے اور باہر سے آئے مہمانوں کے سامنے اجاگر کرتی ہیں اس طرح ثقافتی تنوع کو فروغ ملتا ہے۔ ان سرگرمیوں میں بھرپور شرکت کرنے سے معاشرے اپنے ثقافتی جواہر کو تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

پاکستان کے دیہی علاقوں میں کہانی صرف تفریح کی ایک شکل نہیں ہے بلکہ تاریخ، ثقافت اور اخلاقی اقدار کو محفوظ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ بہت سی دیہی برادریوں میں بزرگ اور کہانی سنانے والے جنہیں "داستان گو" کہا جاتا ہے شام کے وقت لوگوں کو لوک داستانیں، تاریخی واقعات اور اخلاقی اسباق کی کہانیاں سنانے کے لیے جمع کرتے ہیں۔

پاکستانی معاشرے میں تفریحی سرگرمیاں

بدیہی علاقوں میں عام سرگرمیاں

پاکستان کے دیہی علاقوں میں تفریحی سرگرمیاں عموماً قدرتی ماحول، ثقافتی روایات، اور جدید سہولتوں تک محدود رہ سکتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں کچھ عام تفریحی سرگرمیاں درج ذیل ہیں:

- کبڈی، ملاکھڑا، والی بال اور دیگر روایتی کھیل دیہی علاقوں میں مقبول ہیں جو کھلے میدانوں اور سڑکوں پر کھیلے جاتے ہیں۔
- سماجی اجتماعات جیسے شادیوں، عید کی تقریبات، ثقافتی اور مذہبی تہوار دیہی زندگی کا اہم حصہ ہیں جو لوگوں کو آپس میں ملنے جلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اور معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایسے اجتماعات کے لیے دیہی علاقوں میں چوپال، بڈیرہ یا بیٹھک ایک باقاعدہ مقام ہوتا ہے۔
- داستان گوئی اور لوک موسیقی کی روایات پاکستان کے دیہی علاقوں میں آج بھی زندہ ہیں جہاں گاؤں کے باشندے تاریخ اور ثقافتی ورثے کو گیتوں اور کہانیوں کے ذریعے ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔
- روایتی دستکاریاں دیہی معاشرے میں عام ہوتی ہیں۔ ان میں مٹی کے برتن، بُنائی اور کڑھائی شامل ہیں جو عموماً نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بھی ہیں جبکہ کچھ لوگ اسے بطور مشغلہ اپناتے ہیں۔
- شکار کرنا اور مچھلی پکڑنا بھی دیہی علاقوں کے پسندیدہ مشاغل ہیں کیونکہ وہاں جنگلی حیات اور پانی کے وسائل نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ سرگرمیاں تفریح اور خوراک کے ذرائع بھی فراہم کرتی ہیں۔
- مقامی تہوار جیسے "میلے" دیہی علاقوں میں مخصوص مواقع پر منعقد ہوتے ہیں جو آس پاس کے علاقوں کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں جن میں موسیقی، رقص، کھانا اور کھیل شامل ہوتے ہیں۔ بہت سے میلے بہار کی آمد یا اچھی فصل کی خوشی میں منعقد کیے جاتے ہیں۔
- کمیونٹی سروس بھی کئی دیہی علاقوں میں ایک عام تفریحی سرگرمی ہے۔ پانی کی نالیوں کی صفائی، عوامی مقامات کی دیکھ بھال اور ہمسایوں کی مدد جیسے کام معاشرتی اور سماجی ذمہ داری کا احساس بڑھاتے ہیں۔

شہری علاقوں میں عام سرنگریں

پاکستان کے شہری علاقوں میں تفریحی سرگرمیاں عموماً یہی علاقوں سے مختلف ہوتی ہیں۔

کھیل اور ورزش خاص طور پر نوجوان پاکستانیوں کے لیے عام تفریحی سرگرمیاں ہیں۔ کرکٹ کے علاوہ بہت سے پاکستانی دیگر کھیلوں جیسے فٹ بال، باسکٹ بال دوم: تفریحی سرگرمیاں - کھیل

27

نیشنل بک فاؤنڈیشن

بال، ٹینس اور اسکو اش سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ فنس کے شوقین افراد صحت مند اور فعال رہنے کے لیے جم اور جاگنگ ٹریک جاتے ہیں۔

سفر پاکستان کے لیے ایک پسندیدہ تفریحی سرگرمی بن چکا ہے۔ اندرون ملک سیاحت میں بہت اضافہ ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سے دلچسپ سیاحتی مقامات

ہیں جیسے قدیم مہنجوداڑو کے کھنڈرات سے لے کر شمالی علاقوں کی خوبصورت وادیاں۔ بہت

سے لوگ نئے مقامات کی سیر کرتے ہیں، مختلف ثقافتوں کا تجربہ کرتے ہیں اور ملک کی تاریخ

اور ورثے کے بارے میں سیکھتے ہیں۔



مطالعہ اور تحریر کے مشغلے انٹرنیٹ کے ایجاد کے بعد متاثر ہوئے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان

میں یہ تفریحی سرگرمیاں مقبول ہیں۔ بہت سے لوگ اردو، انگریزی، اور علاقائی ادب،

شاعری اور بلاگنگ وغیرہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

ویڈیو گیمز پاکستان میں تیزی سے مقبول ہو گئی ہیں اور بہت سے لوگ دوستوں اور

خاندان کے ساتھ آن لائن گیمنگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گیمنگ ٹورنامنٹس اور ای سپورٹس کے مقابلے بھی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں جن میں

بہت سے نوجوان کھلاڑی قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرتے ہیں۔

ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا بھی بہت سے پاکستانیوں کے لیے پسندیدہ تفریحی سرگرمیاں ہیں۔ متعدد ویب چینلز، ویڈیو اسٹریمنگ سائٹس اور سوشل میڈیا پلیٹ

فارمز کے آنے کے ساتھ بہت سے لوگ خاص طور پر بزرگ افراد اپنا زیادہ تر وقت ٹی وی اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں تاکہ وہ اپنے پسندیدہ پروگرام دیکھ

سکیں۔

تفریحی سرگرمیاں لوگوں کو آپس میں ملاتی ہیں، سماجی تعلقات کو بڑھاتی ہیں اور پاکستانی معاشرت کے ثقافتی حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ روزمرہ کاموں میں

وقف فراہم کرتی ہیں تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ اور جدت کو فروغ دیتی ہیں اور جسمانی اور ذہنی فلاح و بہبود کو جلا بخشتی ہیں۔

ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورازم کونسل 2023 کی سالانہ تحقیق کے مطابق، پاکستان کے مقامی سیاحوں نے ایک سال کے دوران 3.8 کھرب روپے خرچ کیے۔ یہ رقم 2024

میں تقریباً 4 کھرب روپے تک پہنچ چکی ہے۔

پاکستان میں کھیلوں کی اہمیت

کھیل ایک اہم تفریحی سرگرمی ہے جو افراد اور معاشرے کی جسمانی، ذہنی، اور سماجی فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کھیلوں میں مشغول ہونا جسمانی

صحت، جسم و ذہن کی ہم آہنگی اور پک کو بہتر بناتا ہے جو روزمرہ کے کاموں اور چوٹوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ یہ دل کی بیماریوں، ذیابیطس، اور موٹاپے

جیسے دائمی امراض کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ کھیلوں سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، خود اعتمادی بڑھتی ہے، اور مستقل مزاجی اور محنت کی عادت فروغ پاتی ہے۔

سماجی طور پر کھیل صحت مند معاشرے کی تشکیل، ٹیم ورک اور تعاون کو فروغ دیتے ہیں جو زندگی کے دیگر شعبوں میں بہتری کا ضامن بنتا ہے۔ یہ کردار سازی

کی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتے ہیں جیسے اچھے کاموں میں اپنا وقت وقف کرنا اور محنت اور انصاف سے کام لینا۔ جسمانی سرگرمیاں یادداشت، توجہ اور مسئلہ حل

نیشنل بک فاؤنڈیشن

کرنے کی صلاحیتوں کو بھی بہتر بناتی ہیں۔

نوکر یوں کی تحقیق، سیاحت اور کھیلوں سے متعلق سامان اور خدمات کی فروخت کے ذریعے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیلوں کے مقابلوں کی میزبانی مقامی معیشتوں کو فروغ دے سکتی ہے اور عالمی سطح پر شناخت حاصل کر سکتی ہے۔ بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں کے ذریعے ثقافتی تبادلوں اور باہمی تفہیم کو فروغ ملتا ہے۔

پاکستان میں کھیل

پاکستان میں روایتی کھیل

پاکستان میں روایتی کھیلوں کی تاریخ شاندار اور ثقافتی اہمیت ہے۔ کئی کھیل نسل در نسل منتقل ہوتے آئے ہیں۔ یہ کھیل جسمانی صحت، طاقت، اور چستی کو فروغ دیتے ہیں جبکہ کمیونٹی کی شمولیت اور سماجی تعلقات کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔



کبڈی پاکستان کا ایک مقبول کھیل ہے جو دیہی پاکستان سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں کشتی اور رنگی کے عناصر شامل ہیں۔ اس کھیل میں دو ٹیمیں ہوتی ہیں جن کے کھلاڑی باری باری حریف ٹیم کے نصف میدان پر حملہ کرتے ہیں اور دفاعی کھلاڑیوں کو چھو کر واپس اپنے نصف میدان میں آجاتے ہیں۔ دفاعی کھلاڑی حملہ آور کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کھیل پورے ملک میں کھیلا جاتا ہے، جس میں قومی اور بین

الاقوامی مقابلے شامل ہیں۔ کبڈی طاقت، تیزی اور حکمت عملی کو فروغ دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان میں ایک پسندیدہ کھیل ہے۔

روایتی کشتی بھی پاکستان کے دیہی علاقوں میں مقبول ہے۔ پہلوان ایک گول دائرے میں کشتی لڑتے ہیں جسے "اکھاٹا" کہا جاتا ہے۔ مقابلے میں گرفت کے طریقے اور طاقت و مہارت کا مظاہرہ شامل ہوتا ہے۔ پہلوانی کی تربیت میں سخت جسمانی مشقت اور خاص خوراک پر زور دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں گوجرانوالہ کو "پہلوانوں کا شہر" کہا جاتا ہے۔ ان دیہی مراکز سے تربیت حاصل کر کے پاکستانی پہلوان جیسے گاما پہلوان جنہیں "رستم زمان" کا خطاب دیا گیا اور جھارا پہلوان نے بین الاقوامی میدانوں میں پاکستان کا پرچم بلند کیا۔

ملاکھڑ اسندھ کا ایک روایتی کشتی کا کھیل ہے جس میں پہلوان رنگین کمر بند باندھ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ مقصد حریف کو اس کے کمر بند سے پکڑ کر بے قابو کرنا اور زمین پر گرانا ہوتا ہے۔ یہ مقابلے عموماً ثقافتی تہواروں اور تقریبات کے دوران کھلے میدانوں میں ہوتے ہیں۔

رہہ کشتی پاکستان کے دیہی علاقوں کا ایک روایتی کھیل ہے۔ اس کھیل کے لیے طاقت، برداشت اور ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کھیل میں دو ٹیموں کا مقابلہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو مخالف سمت میں کھینچتی ہیں جس کا مقصد رسی کو ایک خاص فاصلہ تک کھینچنا ہوتا ہے۔

ان کھیلوں کے علاوہ، کھوکھو، کوکا چھپاکی، پٹھو گرم اور دیگر کئی کھیل پاکستان میں مقبول ہیں۔

پاکستان میں قومی اور بین الاقوامی کھیل

روایتی کھیلوں کے علاوہ پاکستان میں قومی اور بین الاقوامی کھیل بھی بہت مقبول ہیں جن میں سے کئی کھیلوں کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہے۔

ہاکی: قومی کھیل

ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ پاکستانی ہاکی ٹیم نے اس کھیل میں بے شمار بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے ہیں جن میں تین اولمپک سونے کے تمغے، چار ورلڈ کپ ٹائٹلز اور متعدد ایشین گیمز کے سونے کے تمغے شامل ہیں۔

ہاکی کو پاکستان میں برطانوی نوآبادیاتی دور کے دوران متعارف کرایا گیا تھا اور ملک نے اس کھیل کو فوراً اپنا ہاکی ٹیم نے 1948 میں اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد سے یہ ٹیم ہاکی کی دنیا میں ایک طاقتور حیثیت اختیار کر گئی۔



سہیل عباس

1960 کی دہائی سے لے کر 1990 کی دہائی کے اوائل تک پاکستان کی ہاکی کا سنہری دور تھا۔ اس دوران ٹیم نے کئی بین الاقوامی اعزازات جیتے جن میں تین اولمپک سونے کے تمغے (1960, 1968 اور 1984) اور چار ورلڈ کپ ٹائٹلز (1971, 1978, 1982 اور 1994) شامل ہیں۔ ان سالوں میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے اس کھیل کی تاریخ کے کچھ عظیم کھلاڑی پیدا کیے۔

سہیل عباس ایک پینٹیٹل کارنر اسپیشلسٹ تھے جنہوں نے عالمی ہاکی میں سب سے زیادہ گول کرنے کا ریکارڈ بنایا۔

شہباز احمد، جنہیں "ہاکی کے میراڈونا" کے طور پر جانا جاتا ہے اپنی غیر معمولی ڈربلنگ کی مہارت اور رفتار کی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے۔

حسن سردار ایک پروفیشنل اسٹرائیکر تھے جنہوں نے پاکستان کی 1982 کے ورلڈ کپ اور 1984 کے لاس اینجلس اولمپکس میں فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔

اصلاح الدین پاکستان کی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اور کوچ تھے جنہوں نے پاکستان کو 1978 کے ورلڈ کپ اور 1982 کے ایشین گیمز میں فتح دلوائی۔

سمیع اللہ کو "فلائنگ ہارس" کے لقب سے جانا جاتا تھا جو ان کی غیر معمولی رفتار کو ظاہر کرتا ہے۔ کلیم اللہ ایک اور عظیم سینٹر فارورڈ تھے جو اپنے طاقتور شاٹس اور گول کرنے کی صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے۔

حنیف خان ایک ور شاٹس فارورڈ تھے جو اپنے شاندار کھیل اور حکمت عملی کے لیے جانے جاتے تھے۔ اختر رسول ایک عظیم سینٹر ہاف تھے جو اپنے غیر معمولی بال کنٹرول کے لیے مشہور تھے۔

شاہد علی خان اور منصور احمد پاکستان کی ہاکی کے بہترین گول کیپرز میں شامل ہیں۔

پاکستان میں ہاکی کی موجودہ صورت حال

پاکستان کی ہاکی ٹیم کو حالیہ برسوں میں مشکلات کا سامنا رہا ہے اور ٹیم عالمی کپ کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کر سکی۔ پھر بھی یہ کھیل ملک میں مقبول ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن اس کھیل کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے اور اس کھیل کے بنیادی سطح پر پروگرامز اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔

اسکواش: قومی فخر

اسکواش پاکستان ایک مقبول کھیل ہے جس کی عالمی سطح پر مشہور کھلاڑیوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ پاکستان کی اسکواش کی روایت مضبوط ہے اور یہ کھیل ملک بھر میں کھیلا جاتا ہے۔

اسکواش کو بھی پاکستان میں برطانوی نوآبادیاتی دور میں متعارف کرایا گیا تھا۔ پاکستان کے اسکواش کھلاڑیوں نے 1950 کی دہائی میں اپنے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد سے کھلاڑیوں نے اس کھیل میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔

پاکستان نے اسکواش کے چند عظیم کھلاڑیوں کو پیدا کیا ہے جن میں ہاشم خان، جہانگیر خان، جان شیر خان اور قمر زمان شامل ہیں۔ ان کھلاڑیوں نے بے شمار بین الاقوامی اعزازات جیتے ہیں جن میں برٹش اوپن اور ورلڈ چیمپئن شپ ٹائٹلز شامل ہیں۔

جہانگیر خان کو دنیا کے بہترین اسکواش کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے ریکارڈ 10 برٹش اوپن ٹائٹلز اور 8 ورلڈ چیمپئن شپ ٹائٹلز جیتے اور عالمی درجہ بندی میں 12 سال تک نمبر ایک کی پوزیشن پر رہے۔

جان شیر خان ایک اور پاکستانی اسکواش لیجنڈ ہیں جنہوں نے 6 برٹش اوپن ٹائٹلز اور 4 ورلڈ چیمپئن شپ ٹائٹلز جیتے۔ وہ 5 سال تک عالمی سطح پر نمبر ایک رہے اور اپنے جارحانہ کھیل کے لیے مشہور تھے۔

پاکستان میں کئی عالمی معیار کے اسکواش کورٹ ہیں جن میں اسلام آباد کا پاکستان اسکواش کمپلیکس بھی شامل ہے جو بین الاقوامی ٹورنامنٹس کی میزبانی کرتا ہے۔ ملک کو مزید اسکواش کورٹ، اکیڈمیز اور ٹریننگ سینٹرز کی ضرورت ہے جو نوجوان کھلاڑیوں کو تربیت فراہم کر سکیں تاکہ پاکستان اسکواش کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کر سکے۔

کرکٹ: قومی جنون

پاکستان کا سب سے مقبول اور شوق سے کھیلا اور دیکھا جانے والا کھیل کرکٹ ہے جسے اکثر قومی جنون بھی کہا جاتا ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور کے دوران اس کھیل کا تعارف پاکستان میں ہوا اور یہ کھیل پاکستانی شناخت اور ثقافت کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔

پاکستان کی آزادی کے بعد 1947 میں اس کھیل کا آغاز ہوا۔ 1952 میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم نے اپنے ابتدائی ٹیسٹ میچ میں بھارت سے مقابلہ کیا جس کے ساتھ ہی پاکستان کرکٹ کے تاریخی کیریئر کا آغاز کیا۔ پاکستان نے وقتاً فوقتاً دنیا کے سب سے باصلاحیت اور معروف کرکٹ کھلاڑی پیدا کیے ہیں جو کھیل کو

نیشنل بک فاؤنڈیشن

عالمی سطح پر مقبول بنانے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں۔



وسیم اکرم اور وقار یونس

فضل محمود اوول کے ہیر و کھاتے ہیں جو 100 وکٹوں کا ہدف عبور کرنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی تھے، عمران خان اپنی قائدانہ اور آل راؤنڈ صلاحیتوں کے لیے مشہور تھے اور 1992 میں ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے کپتان تھے۔ ظہیر عباس ایک اسٹائلش بیٹسمین تھے جنہیں "ایشین بریڈ مین" اور "رنز بنانے کی مشین" کہا جاتا تھا۔ وسیم اکرم ایک عظیم بائیں بازو کے باؤلر "سلطان آف سونگ" کے طور پر مشہور ہیں۔ وقار یونس اپنے زبردست یار کرز اور ریورس سونگ باؤلنگ کے لیے جانے جاتے تھے۔ جاوید

میانداد ایک شاندار بیٹسمین تھے اور شعیب اختر تیز باؤلنگ کے لیے مشہور ہیں اور دنیا کی تیز ترین گیند کرانے کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ یہ سب ان کھلاڑیوں میں شامل ہیں جنہوں نے کرکٹ کے کھیل میں پاکستان کو عزت دلائی۔

پاکستان کی خواتین کرکٹرز بھی عالمی سطح پر مشہور ہیں۔ ان میں ثناء میر اپنی غیر معمولی قیادت کی صلاحیتوں اور آل راؤنڈر ہونے کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، بسمہ معروف ایک ناپ آرڈر بیٹری ہیں اور ند اڈار جو بیٹنگ اور باؤلنگ دونوں شعبوں میں پاکستان کے لیے کامیاب ثابت ہوئی ہیں شامل ہیں۔



بین الاقوامی کھیل

پاکستان میں حالیہ برسوں میں بین الاقوامی کھیلوں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، جو پاکستانیوں کے لیے بہت سی تفریحی سرگرمیاں فراہم کرتے ہیں۔ ان کھیلوں سے جسمانی فٹنس، ذہنی صحت اور سماجی میل جول کو فروغ ملتا ہے جبکہ بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کے مواقع بھی ملتے ہیں۔

فٹ بال

پاکستان میں فٹ بال کی تاریخ شاندار رہی ہے اور مختلف علاقوں میں اس کے شائقین کی ایک قابل ذکر تعداد موجود ہے۔ اس خطے میں اس کھیل کا آغاز برطانوی نوآبادیاتی دور میں ہوا تھا اور یہ ان علاقوں میں مقبول ہوا جہاں برطانوی فوجی اڈے قائم تھے۔

پاکستان نے 1960 کی دہائی میں فٹ بال میں جاپان کو شکست دی۔ یہ تاریخی فتح ملائیشیا میں 1960 کے مرڈیکاپ میں ہوئی جہاں پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم نے جاپان کو 1-3 سے شکست دی۔ یہ جیت پاکستانی فٹ بال کی تاریخ کی ایک قابل ذکر کامیابی ہے، جو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ٹیم کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔

پاکستان فٹ بال فیڈریشن 1948 میں اس کھیل کو پاکستان میں فروغ دینے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ پاکستان پریمیر لیگ (PPL) پاکستان کی سب سے بڑی پیشہ ورانہ فٹ بال لیگ ہے، جس میں ملک بھر کی کلب ٹیمیں قومی چیمپئن شپ کے لیے مقابلہ کرتی ہیں۔ 1950 کی دہائی 60 کی دہائی اور 70 کی دہائی میں پاکستانی فٹ بال کھلاڑیوں نے بین الاقوامی میدان میں اپنا اثر چھوٹا۔

قیوم چنگیزی، غفور جٹا، تاج محمد سینئر اور جونیر اور ایسے کئی دیگر ہیروز پاکستان کے فٹ بال حلقوں میں آئے اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ حالیہ برسوں میں، پاکستان کی فٹ بال ٹیم نے بین الاقوامی سطح پر نمایاں بہتری دکھائی ہے۔

تاہم، یہ اب بھی دنیا اور حتیٰ کہ ایشیا کی اعلیٰ درجے کی ٹیموں سے بہت پیچھے ہے۔ محدود فنڈنگ، بنیادی سہولیات کی کمی اور سیاسی و انتظامی مسائل جیسے چیلنجز کے باوجود پاکستان میں فٹ بال کے فروغ کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ بین الاقوامی فٹ بال تنظیموں، غیر ملکی کلبوں اور کوچز کے تعاون سے پاکستان فٹ بال کے میدان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔

باکسنگ

باکسنگ پاکستان کا ایک اور مقبول کھیل ہے جس میں کئی باصلاحیت باکسرز نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر پہچان حاصل کی ہے۔ اس کھیل نے گزشتہ دہائیوں میں ترقی کی ہے جس کا سہرا سخت ٹریننگ پروگراموں کو جاتا ہے۔ پاکستان کے مشہور باکسرز میں حسین شاہ ہیں جنہوں نے 1988 کے سیول اولمپک میں مڈل ویٹ



محمد وسیم

کیٹگری میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ یہ وہ واحد پاکستانی باکسر ہیں جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ محمد وسیم جنہیں "فالکن" کے نام سے جانا جاتا ہے ایک مشہور پاکستانی باکسر ہیں جنہوں نے کئی عالمی اعزازات جیتے ہیں۔

ٹینس

ٹینس پاکستان میں ترقی کرتا ہوا کھیل ہے جس میں پاکستانی کھلاڑی جیسے اعصام الحق قریشی اور عقیل خان نے عالمی سطح پر کامیابی حاصل کی ہے۔

بیڈمنٹن

بیڈمنٹن پاکستان میں ایک ترقی پذیر کھیل ہے جس نے قومی چیمپئنز اور بین الاقوامی کھلاڑیوں کو پیدا کیا ہے۔

پاکستان میں غیر روایتی کھیل

پاکستان میں غیر روایتی کھیل حالیہ برسوں میں مقبول ہوئے ہیں جو پاکستانیوں کے لیے تفریحی سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ کھیل جسمانی فٹنس، ذہنی مضبوطی، اور سماجی میل جول کو فروغ دیتے ہیں اور ساتھ ہی بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔

مارشل آرٹس جیسے کراٹے، تکوانڈو، اور جوڈو پاکستان میں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں جو اپنی ذاتی حفاظت اور جسمانی فٹنس پر زور دیتے ہیں۔ مارشل آرٹس نظم و ضبط، توجہ اور جسمانی مہارت کو فروغ دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پاکستان میں ایک مقبول انتخاب بن چکے ہیں۔

جنا سٹکس کا کھیل پاکستان میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور پاکستانی جینا سٹس عالمی سطح پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ جینا سٹکس طاقت، پک اور ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان میں ایک پسندیدہ کھیل بن رہا ہے۔



ارشاد ندیم

دیگر کھیلوں میں نیزہ بازی یا جوبولین تھرو شامل ہے جہاں ارشد ندیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پہلے پاکستانی بنے جنھوں نے ہاکی کے علاوہ کسی کھیل میں اولمپک کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ سنو کر میں محمد یوسف 1994 میں عالمی امپچور سنو کر چیمپئن بنے، محمد آصف 2012 اور 2019 میں عالمی امپچور سنو کر چیمپئن بنے اور احسن رمضان 2022 میں عالمی چیمپئن بنے اور پاکستان کا نام روشن کیا۔

کھیل پاکستانی معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو مختلف دلچسپیوں اور عمر کے لوگوں کے لیے وسیع پیمانے پر تفریحی سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ روایتی کھیلوں سے لے کر بین الاقوامی کھیلوں تک کھیل جسمانی فٹنس، سماجی میل جول، اور قومی فخر کو فروغ دیتے ہیں جس سے یہ پاکستانی ثقافت کا ایک لازمی حصہ بنتے ہیں۔ کھیلوں میں مزید سرمایہ کاری اور ملک کے لیے اسے ترجیح بناتے ہوئے پاکستان کے پاس کھیلوں میں عالمی طاقت بننے کی صلاحیت ہے۔

میں نے کیا سیکھا

- تفریحی سرگرمیاں جسمانی و ذہنی صحت اور سماجی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہیں۔
- تفریحی سرگرمیوں میں مشغول ہونا ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے، ذہنی افعال کو بہتر بناتا ہے، اور جذباتی صحت میں اضافہ کرتا ہے۔
- روایتی تفریحی سرگرمیاں جیسے مختلف کھیلوں میں شرکت ثقافتی ورثے کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
- جدید تفریحی سرگرمیاں جیسے پکنک اور ثقافتی تہواروں میں شرکت معاشرتی تعلقات کو مضبوط بناتی ہیں اور ثقافتی تبادلوں کو فروغ دیتی ہیں۔
- پاکستان میں مقبول تفریحی سرگرمیوں میں کھیل، تہوار، موسیقی اور روایتی کھیل شامل ہیں۔
- علاقائی تہواروں جیسے ایونٹ پاکستان کے وسیع ثقافتی تنوع کو اجاگر کرتے ہیں۔
- پارکوں، ساحلوں، پہاڑوں اور تاریخی مقامات کی سیر پاکستانیوں کی عام تفریحی سرگرمیاں ہیں۔

- کھیل جسمانی فٹنس، ذہنی صحت اور سماجی بہبود میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
- کھیلوں میں حصہ لینا ٹیم ورک، نظم و ضبط، اور قیادت کی صلاحیتوں کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
- کھیل ایک اتحاد کی قوت کے طور پر کام کرتے ہیں، لوگوں کو ایک ساتھ لاتے ہیں اور قومی فخر اور شناخت کا احساس پیدا کرتے ہیں۔
- روایتی کھیل جیسے کبڈی اور ملاکھڑ ادیبی علاقوں میں بڑے پیمانے پر کھیلے جاتے ہیں جو علاقائی ثقافتی روایات کو اجاگر کرتے ہیں۔
- پاکستان میں ہاکی اور کرکٹ بے حد مقبول ہیں اور کرکٹ ملک کا سب سے زیادہ کھیلا اور دیکھا جانے والا کھیل ہے۔

مشقی سوالات

درج ذیل سوالات کے جوابات الف، ب، ج یا د میں سے منتخب کر کے دیں۔

1- تفریحی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا بنیادی فائدہ کیا ہے؟

- الف) ذہنی دباؤ کی سطح میں اضافہ
 ب) جسمانی صحت میں بہتری
 ج) سماجی تعلقات میں کمی
 د) ذہنی افعال میں کمی

2- تفریحی سرگرمیاں معاشرے کی مضبوطی میں کیسے مدد دیتی ہیں؟

- الف) تنہائی کو فروغ دے کر
 ب) سماجی تعلقات میں کمی کر کے
 ج) سماجی ہم آہنگی اور کمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دے کر
 د) کام کے دباؤ کو بڑھا کر

3- کون سا روایتی کھیل لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے اور لمبی چھڑی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے؟

- الف) کبڈی
 ب) گلی ڈنڈا
 ج) کرکٹ
 د) ہاکی

4- ذہنی صحت کے حوالے سے تفریحی سرگرمیوں کا فائدہ کیا ہے؟

- الف) اضطراب میں اضافہ
 ب) جذباتی صحت میں بہتری
 ج) خود اعتمادی میں کمی
 د) ذہنی زوال میں اضافہ

5- 1988 کے سیول اولمپک میں کس پاکستانی باکسر نے کانسی کا تمغہ جیتا تھا؟

- الف) محمد وسیم
 ب) حسین شاہ
 ج) کلیم اللہ
 د) احسن رمضان

6۔ کھیل جسمانی فٹنس میں کس طرح مدد دیتے ہیں؟

- الف) غیر فعال طرز زندگی کو فروغ دے کر
ب) جسمانی سرگرمی کی سطح کو کم کر کے
ج) کوائی بیماریوں کے خطرے میں اضافہ کر کے
د) دل کی صحت اور پٹھوں کی طاقت میں اضافہ کر کے
- 7۔ محمد آصف نے کس کھیل میں ورلڈ چیمپئن شپ جیتی؟

- الف) کھٹ بال
ب) کرکٹ
ج) اسکو اش
د) سنو کر

8۔ ٹیم کھیلوں میں حصہ لینے کا ایک اہم سماجی فائدہ کیا ہے؟

- الف) ٹیم ورک اور تعاون کو بڑھا کر
ب) انفرادیت کو فروغ دے کر
ج) کمیونیکیشن کی مہارتوں میں کمی کر کے
د) سماجی تعلقات میں کمی کر کے
- 9۔ کون سا روایتی کھیل مقابل پکڑنے سے متعلق ہوتا ہے اور خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے دیہی علاقوں میں مقبول ہے؟

- الف) ہاکا
ب) کھٹ بال
ج) کشتی
د) ٹینس

10۔ ارشد ندیم کس کھیل کے لیے مشہور ہیں؟

- الف) گولڈی
ب) ہینز بازی
ج) کشتی
د) سنو کر

درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

- وضاحت کریں کہ تفریحی سرگرمیاں ذہنی نشوونما میں کس طرح معاون ثابت ہوتی ہیں۔
- پاکستانی معاشرے میں کون سی روایتی تفریحی سرگرمیاں مقبول ہیں؟
- تفریحی سرگرمیاں ثقافتی ورثے کے تحفظ میں کس طرح مدد فراہم کرتی ہیں؟
- وضاحت کریں کہ کھیلوں میں حصہ لینا جسمانی فٹنس کو کس طرح بہتر بناتا ہے۔
- سماجی ترقی کے لیے ٹیم کھیلوں کے کیا فوائد ہیں؟
- دو عالمی کھیلوں کے نام بتائیں جن میں پاکستان نے پہچان حاصل کی ہے۔
- پاکستان میں مقبول ایک روایتی اور ایک غیر روایتی کھیل کی شناخت کریں اور ان کا مختصر تعارف کریں۔

درج ذیل سوالات کے جوابات تفصیل سے دیں۔

- 1- تفریحی سرگرمیوں کے مختلف نفسیاتی فوائد پر بحث کریں اور وضاحت کریں کہ یہ کس طرح مجموعی طور پر ذہنی صحت اور نشوونما میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ پاکستانی معاشرے سے مثالیں فراہم کریں۔
- 2- تفریحی سرگرمیوں کا معاشرے کی تشکیل اور سماجی ہم آہنگی میں کیا کردار ہے؟ یہ سرگرمیاں ایک معاشرے میں تعلقات کو مضبوط کرنے میں کس طرح مدد دیتی ہیں؟
- 3- پاکستان میں کھیلوں کی اہمیت پر تجزیہ کریں اور وضاحت کریں کہ کھیل کس طرح جسمانی صحت، ذہنی فلاح، بہبود اور سماجی انضمام میں معاون ہیں؟
- 4- پاکستان میں روایتی کھیلوں کے ثقافتی ورثے کے تحفظ پر اثرات کا تجزیہ کریں۔ یہ کھیل ان علاقوں کی ثقافتی اقدار اور تاریخ کی عکاسی کیسے کرتے ہیں جہاں یہ مقبول ہیں؟
- 5- پاکستان میں فٹ بال کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیں۔ اس کی تاریخ، چیلنجز اور مستقبل کے امکانات کو جانچیں۔ فٹ بال کا ملک میں دیگر کھیلوں کے ساتھ مقبولیت اور ترقی کے لحاظ سے موازنہ کریں؟

موازنہ اور تضاد

روایتی کھیل جیسے کبڈی اور جدید کھیل جیسے کرکٹ کو منتخب کریں اور پاکستان میں ان کے تاریخی پس منظر، قواعد، ثقافتی اہمیت اور مقبولیت پر تحقیق کریں۔ ایک تقابلی تجزیہ لکھیں، جس میں دونوں کھیلوں کے جسمانی فٹنس، تفریح اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں کردار کے لحاظ سے مماثلتوں اور اختلافات کو اجاگر کیا جائے۔ دونوں کھیلوں کے پاکستانی معاشرے پر مجموعی اثرات اور ملک میں کھیلوں کی ثقافت کو فروغ دینے میں ان کے باہمی تعلق پر غور کریں۔ ان اختلافات کو واضح کرنے کے لیے ایک بصری پریزنٹیشن تیار کریں۔

وقت کے ساتھ تعلق

ایک ایسا کھیل منتخب کریں جس کی پاکستان میں نمایاں تاریخ ہو، جیسے کرکٹ، ہاکی یا کبڈی۔ اس کے تاریخی تناظر، اہم واقعات، مشہور کھلاڑیوں اور کامیابیوں پر تحقیق کریں۔ اس کھیل کی جدید اہمیت کا جائزہ لیں، جس میں موجودہ کھلاڑی، کامیابیاں اور مقبولیت شامل ہوں۔ یہ بھی تجزیہ کریں کہ یہ کھیل جدید دور کے مطابق کیسے ڈھل چکا ہے، جس میں قواعد، آلات، تربیتی طریقے اور میڈیا کو ترجیح میں ہونے والی تبدیلیاں شامل ہوں۔ ایک تقابلی تجزیہ کریں جس میں کھیل کے آغاز، تاریخی اہمیت اور جدید دور میں اس کی مطابقت پر توجہ دی جائے۔ کھیل کے ارتقا کو ابتدا سے لے کر موجودہ دور تک ظاہر کرنے کے لیے ایک بصری ٹائم لائن تیار کریں۔

پراجیکٹ

کلاس کے طلبہ تین سے چار افراد پر مشتمل چھوٹے گروپس میں تقسیم ہوں گے اور پاکستان کے کسی ایسے علاقے یا کمیونٹی کا انتخاب کریں جہاں کھیلوں کا اہم کردار ہو۔ وہ اس کمیونٹی کے آبادیاتی اور ثقافتی پس منظر پر تحقیق کریں، مقبول کھیلوں کی نشاندہی کریں، ان کے جسمانی صحت پر اثرات کا جائزہ لیں اور سماجی ہم آہنگی کو دریافت کریں۔ اس کمیونٹی کی ثقافتی وراثت کا تجزیہ کریں اور ایک رپورٹ تیار کی جائے جس میں کمیونٹی کا تعارف اور اس کی ترقی میں کھیلوں کی اہمیت بیان کی جائے گی۔ نتائج کو منظم انداز میں مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے اور اختتامیہ فراہم کیا جائے۔ اہم نکات کو اجاگر کرنے اور وضاحت کے لیے ایک بصری پریزنٹیشن بھی تیار کی جائے۔

لغت

تفریحی سرگرمیاں: ایسی سرگرمیاں جو فارغ وقت میں لطف اندوز ہونے اور آرام کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، جیسے کھیل، مشاغل اور سماجی اجتماعات۔ جسمانی فٹنس: روزمرہ کے کاموں کو توانائی کے ساتھ اور بغیر غیر ضروری تھکن کے انجام دینے کی صلاحیت، جس میں قلبی صحت، عضلات کی مضبوطی، لچک اور برداشت شامل ہیں۔

ذہنی صحت: ایک ایسی حالت جس میں فرد عام زندگی کے دباؤ کا سامنا کر سکتا ہے، موثر انداز میں کام کر سکتا ہے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔

سماجی ہم آہنگی: وہ تعلقات جو لوگوں کو ایک معاشرے میں یکجا کرتے ہیں اور بھروسے، تعاون اور شمولیت کے جذبات کو فروغ دیتے ہیں۔ ثقافتی وراثت: وہ روایات، رسوم و رواج، طریقے اور آثار جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں اور کسی معاشرے کی تاریخ اور شناخت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹیم اسپورٹس: ایسے کھیل جو منظم گروپوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور جہاں کھلاڑی مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرتے ہیں جیسے فٹبال، ہاکی، اور کرکٹ۔

روایتی کھیل: وہ کھیل اور گیمز جو نسلوں سے کھیلے جا رہے ہیں اور کسی معاشرے کی ثقافت میں گہرے طور پر جڑے ہوتے ہیں، جیسے کبڈی اور ملا کھڑا۔

قومی کھیل: وہ کھیل جو کسی ملک میں ثقافتی اور تاریخی لحاظ سے نمایاں اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں اکثر سرکاری طور پر تسلیم شدہ اور وسیع پیمانے پر مقبول ہوتے ہیں۔

بین الاقوامی کھیل: وہ کھیل جو عالمی سطح پر کھیلے اور دیکھے جاتے ہیں اور ان کے اکثر بین الاقوامی مقابلے اور ایونٹس جیسے اولمپکس وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔

سماجی انضمام: وہ عمل جس کے ذریعے کسی معاشرے کے مختلف گروہوں کو ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے۔

گراس روٹس پروگرامز: ایسے معاشرتی اقدامات جو کھیلوں کی بنیادی سطح سے ترقی کے لیے شروع کیے جاتے ہیں اور خاص طور پر نوجوانوں کی شمولیت اور مقامی ٹیلنٹ کی نشوونما پر توجہ دیتے ہیں۔

تفریحی مشاغل: ایسی سرگرمیاں جو لطف اندوز ہونے، آرام کرنے اور فارغ وقت گزارنے کے لیے کی جاتی ہیں۔

ثقافتی تبادلوں: مختلف ثقافتوں کے درمیان خیالات، روایات اور رسم و رواج کا اشتراک جو اکثر کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کے ذریعے فروغ پاتا ہے۔